

دُعا صبح

۱۲۳

مفتاح الجنان

چھٹی فصل

اس میں بعض مشہور دعاؤں کا تذکرہ ہے

دُعا صبح

یہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

خدا کے نام سے شروع جوڑا ہوا نہایت تمنا ہے

اللّٰهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِتُفْلِيقِ تَبَدُّجِهِ وَسَرَّحَ قَطْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

اے ہمدرد اے وہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لڑائی تاجیوں

بِغِيَاهِبٍ تَلَجَّلَجِهِمْ وَأَنْعَمَ صُنْعِ الْفَلَاحِ الدَّوَارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ وَشَعَشَعَ

سہمت بگا دیا اور گھومتے آسمان کی ساخت کو اس کے رجوں سے حکم کیا اور سورج

ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَأَجُّجِهِ يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَتَكْرَهُ عَنْ مَجَانَسَةِ

کی روشنی کو اس کے نور فرزاں سے چکایا اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کو دلیل بنایا جو اپنی مخلوقات

مَخْلُوقَاتِهِ وَجَلَّ عَنْ مُمْلَاثَمَتِهِ كَيْفِيَّتِهِ يَا مَنْ قَرَّبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ

کا ہم ہنس ہونے سے پاک اور اس کی کیفیتوں کی آبرم شس سے خطرے اے وہ جو ظن خیالوں سے قریب ہے

وَبَعْدَ عَنْ لِحْفَاتِ الْعِيُونِ وَعَلِيمِ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ يَا مَنْ أَرْقَنِي

اور آنکھوں کی دید سے دور ہے اور ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا ہے اے وہ جس نے مجھے

فِي مُهَادِ أَمْنِهِ وَأَمَانِهِ وَأَيْقَنِي إِلَى مَا مَضَى بِيَمٍ مِنْ مَنِينِهِ وَإِحْسَانِهِ وَكَفَى

اپنے امن و سلامتی کے گوارا سے میں ملایا اور اپنی بخشش اور احسان کو پالنے کے لیے مجھے بے حد لگایا

أَكْفَى السُّؤِّ وَعَيْتِي بِمِلْهِ وَسَلْطَانِهِ صَلَّى اللّٰهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ الْبَلَكِ فِي اللَّيْلِ

دعا دار سے برائی کو بھر پر ہاتھ ڈالنے سے روکا اے ہمدرد رحمت فرما اس پر جو تار یک رات میں تیری طرف سے برائی

دُعَا صَبَاح

۱۲۴

مفتاح الجنان

الْأَكْبَلِ وَالْمَأْسِكِ مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الْأَطْوَلِ وَالنَّاصِعِ الْحَسْبِ فِي ذُرْوَةِ

کرنے والا تیرے سہاروں میں سے شرف کی پانداری کو پکڑ لے والا بھکتی پیشانی والا

الْكَاهِلِ الْأَعْبَلِ وَالثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِيفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَعَلَى إِلِهِ الْأَجْدَادِ

اٹلی خاندان میں سے استوار پدش والا آغازی سے لغزشوں کے مواقع پر ثابت قدم بننے والے اللہ رحمت فرما ہی

الْمُصْطَفَيْنِ الْأَبْرَارِ وَافْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيعَ الصَّبَاحِ بِمَعَانِيحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ

کو نیکو کار پرگزیدہ خوش کردار آل پر اے مہربان! اپنی رحمت و بخشش کی کنجیوں سے ہمارے لیے صبح کے دوران کاموں

وَالْيُسْرَى لِلْمُهْمَرِ مِنْ أَفْضَلِ خَلْقِ الْهَدَايَةِ وَالصَّلَاحِ وَأَعْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي

مے اے مہربان! مجھے نیکی و ہدایت کی بہترین غلت پینا دے خداوند! اپنی عظمت کے

شَرِبِ جَنَانِي تَبَايَعِ الْخُشُوعِ وَأَجِرِ اللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنْ أَمَا فِي زَفَرَاتِ الدَّمُوعِ

باغت میرے دل میں اپنے خوف کی لہریں دوڑا دے اے مہربان! اپنی ہیبت کے لیے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے تار

وَأَذِيبِ اللَّهُمَّ نَزَقِ الْخُرْقِ مَتْنِي بِأَرْقَمَتِ الْقَنُوعِ إِلَهِي إِنْ لَعْنَتِي الرِّحْمَةُ مِنْكَ

جاری کرے خدا یا میری کج خلقی کو تمامت کی گام ڈال دے میرے اللہ اگر تو نے اپنی رحمت سے مجھے نیکی

بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ فَمِنْ السَّالِكِ فِي إِلَيْكَ فِي وَاصِحِ الْقَرِيقِ وَإِنْ أَسْلَمْتَنِي أَنَا لَكَ

کی توفیق نہ دی تو کون مجھے تیری طرف کشادہ راہ پر لے چکے گا اور اگر تیری دی ہوئی تھیل سے

لِقَائِدِ الْأَمَلِ وَالْمَوْفِقِ مَعْنِ الْمَقِيلِ عَثْرَاتِي مِنْ كِبَاوَةِ الْهَوَىٰ وَإِنْ خَذَلْتَنِي نَصْرَكَ

میں خواہش کے پیچھے چل پڑا تو کون مجھے ہوس کی ٹھوکروں سے بچائے گا اور اگر میرے نفس اور

عِنْدَ مَحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فَقَدْ وَكَلْتَنِي خِذْلًا لَكَ إِلَىٰ حَيْثُ التَّصِيبِ الْحَرَمَانِ

شیطان کی جنگ میں تیری نصرت پر کمال حال نہ ہونے کا گویا تیری ودی نے مجھے رنج و غم کے حوالے کر دیا

إِلَهِي أَتْرَانِي مِمَّا أَتَيْتَكَ الْأَمِنْ حَيْثُ الْأَمَالِ أَمْرَ عِلْقَتُ بِأَطْرَافِ حَبَالِكَ الْإِحْيَانِ

میرے ملک آیا تیری نظر سے میں تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آیا ہوں یا میں نے تجھ سے اس وقت طلاق نام

بَاعَدْتَنِي ذُنُوبِي عَنْ دَارِ الْوَصَالِ فَبُنْسِ الْمَطِيئَةِ الَّتِي امْتَطَلْتُ نَفْسِي مِنْ هَوَاهَا

کیا کہ جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے وصال سے دور کر دیا پس میرے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنایا پس

فَوَاهَا لَهَا لِمَا سَوَّلَتْ لَهَا طُوبَىٰ لَهَا وَمَا هَا وَسَبَّأَتْهَا لِحُزْنِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَمَوْلَاهَا إِلَهِي

نفسی ہے اس پر اور اس کی خیالی تمناؤں پر اور تباہی ہو اس کی جو اس نے اپنے آقا پر برجزات کی ہے الہی

مفتاح الجنان

۱۲۵

دعا و صباح

قَرَعْتُ بَابَ رَحْمَتِكَ يَا بَدِيحِي وَهَدَيْتُ إِلَيْكَ لِاجْتِنَاءٍ مِنْ قَرْطِ أَهْوَايِ وَوَلَقِيتُ

میں اپنی اُمید کے ہاتھوں تیرے بابِ رحمت پر دستک دی اور اپنی مدد سے زیادہ تناؤں سے ڈر کے تیرے پاس جاگ

بِأَطْرَافِ جِبَالِكَ أَنَا مِلُّ وَلَا آتِي فَاصْفَحْ اللَّهُمَّ عَنَّا كُنْتُ أَجْرَمَتُهُ مِنْ زَلَلِي وَ

آیا ہوں اور رحمت کی انگلیوں سے تیرے دلان رحمت کو تمام لیا ہے اے مجھ سے جو غنیمتیں اور نعمتیں ہوئیں ان

خَطَايِ وَأَقْلَبِي مِنْ صَرَعَةِ رِدَائِي فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ وَمُعْتَمِدِي وَرَجَائِي وَ

سے چشم پوشی فرما اور میری چادر کی پائی سے موت نظر فرما کیونکہ تو میرا آقا و مالک ہے اور میرا سہارا اور اُمید ہے اور

أَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوبِي وَمُنَافِي فِي مُتَقَلَّبِي وَمَشْوَى إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكِينًا إِلَى الْجَا

تو ہی اس دنیا اور آخرت میں بھی میرا اصلی مطلوب و مقصود ہے میرے مجبور! تو اس بے چارے کو کیسے نکال دے گا

إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبًا أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرْشِدًا أَقْصَدَ إِلَى جَنَابِكَ سَاعِيًا

تیرے پاس جو گناہوں سے بھاگ کر آیا ہے یا اس طالبِ ہدایت کو کیسے بلانس کرے گا جو تیرے حضور دروڑا ہوا آیا ہے

أَمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظَنَانٍ وَرَدَّ إِلَى حَيَاضِكَ شَارِبًا كَلًّا وَحَيَاضَكَ مُتْرَعَةً فِي ضَنْكَ

یا اس پیاسے کو تو کیسے در کرے گا جو تیرے کرم کے عوض سے بیان بھالنے آیا ہے ہرگز نہیں کہ تیرے فیض کے چشمے تک سال ہیں

الْمُحَوَّلِ وَبَابِكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْوَعْوَالِ وَأَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ وَنِهَايَةُ الْأُمُودِ

میں رسول ہیں اور تیرا بابِ کرم و اظہار سوال کھلنے کا ہے اور تو سوال کی انتہا اور اُمید کی مدد آخر ہے

إِلَهِي هَذِهِ أَرْمَةٌ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيئَتِكَ وَهَذِهِ أَهْبَاءُ ذُلِّي دَارًا نَهَا

میرے مجبور! یہ میرے نفس کی باگیں ہیں جن کو میں نے تیری مشیت کی دی سے باندھ دیا ہے جاہلیہ میں میرے گناہوں کی گھڑیاں جو

بِعَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ وَهَذِهِ أَهْوَايِ الْمِضْلَةِ وَكَلَّتْهَا إِلَى جَنَابِ لَطْفِكَ وَرَأْفَتِكَ

میں نے تیری بخشش و رحمت کے آگے لا رکھی ہیں اور یہ ہیں میری گمراہ کن خواہشیں جو میں نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دی ہیں

فَاَجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هَذَا نَازِلًا عَلَيَّ بِضِيَاءِ الْهُدَى وَبِالسَّلَامَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

پس اے پروردگار! اس صبح کو میرے لیے نصیحت اور دین و دنیا کی سلامتی کا حال بنا کر نازل فرما

وَمَسَائِي جَنَّةً مِنْ كَيْدِ الْعِيْدِي وَوَقَايَةً مِنْ مُرْجِيَّاتِ الْهَوَى أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى مَا

اور اس رات کو دشمنوں کی مکاری سے میری ڈھال اور بلاک کرنے والی پیرس کی پہنچا دے ہے تک تو جو چاہے اس پر

نَشَاءُ لِقَوِي الْمَلِكِ مَنْ نَشَاءُ وَنَسْرِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ نَشَاءُ وَنُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ وَتَبْدُلُ

تو چاہے جسے چاہے تک و تباہی اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے اور جسے چاہے عزت دیتا اور جسے

مفتاح الجنان

۱۲۶

دُعَاءُ صَبَاحٍ

مَنْ تَشَاءُ مِنْ يَدِكَ الْخَيْرُ أَتَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ

جاے رات و تبا ہے ہر مہلانی تیرے اہم میں ہے ہر شے کو تو ہر چیز پر تاق ہے رات کو دن میں داخل کرتا اور دن

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ

کو رات میں داخل کرتا ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور جسے چاہے

تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ مَنْ ذَا يُعْرِفُ

بے حساب بزرگی مقرر فرماتا ہے نہیں کوئی معبود سوا تیرے پاک ہے تو اے اللہ اور حمد تیرے ہی لیے جکن ہے

قَدْرَكَ فَلَا يَخْفَاكَ وَمَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا يَهَابُكَ أَنْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفَرَقَ

جو تیری قدرت کو پہانے تو اس سے ڈرے وہ کون ہے جو جانتا ہو تو کون ہے میرا تم سے رعب نہ ہو تو نے اپنی عظمت سے خوف نہ

وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ وَأَنْزَلْتَ بِكَرَمِكَ دِيَا جِى الْخَسِيقِ وَأَنْهَرْتَ الْيَمَّاهُ مِنَ

کیا اور اپنے لطف سے سپید ریح کو نمایاں کیا اور ٹوٹے ہی اپنے کرم سے تارک دلوں کو روشن کیا اور تو نے سخت تپوں میں سے

الصُّمُورِ الصَّيَاحِيْدِ عَذَابًا وَأَجَا جَاءَ فَأَنْزَلْتَ مِنَ السَّمَوَاتِ مَاءً تَجَلَّاهَا وَجَعَلْتَ

ٹیٹھے اور کھل دی پانی کے پیٹھے جاری کیے اور بادلوں سے پھرا ہوا میٹھا پانی برسایا اور تو نے

السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِّيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا مِنْ عَيْرَانِ تَعَارِسَ فِيمَا ابْتَدَأَتْ بِهِ

سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے روشن چراغ بنایا بغیر اس کے کہ جو کچھ تو نے پیدا کیا

لِقُوبًا وَلَا عِلَاجًا فِيمَا مَنْ تَوَخَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبِقَاءِ وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ مِثْلَ

مکابو اور اس کا علاج کیا ہو پس لعنت اور ہتار میں یگانہ اور موت و فنا کے ذریعے بندوں پر غالب رہنے والے

عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَأَسْمِعْ نِدَائِي وَأَسْتَجِبْ دُعَائِي وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَلِي

رحمت فرما محمد و آل محمد پر جو پرہیزگاروں اور میری پکار سن لے میری دعا قبول فرما اور اپنے کرم سے میری تباہی امید دہی

وَرَجَائِي يَا خَيْرَ مَنْ دُمِي لِي كَشْفِ الضَّرِّ وَالْمَأْمُولِ لِكُلِّ عَسْرٍ وَيُسِّرْ لِي بِكَ أَنْزَلْتَ

کو دے اے وہ بہترین ذات جسے تکلیف دور کرنے کیلئے پکارا جاتا ہے اور اے نگہ افزا میں امید گاہ میں تیرے حضور حاجت

حَاجَتِي فَلَا تُرَدِّي مِنْ سَبِيٍّ مَوْاهِبِكَ خَائِبًا يَا كَرِيمًا يَا كَرِيمًا يَا كَرِيمًا

نے کر آیا ہوں پس مجھے اپنی وسیع صلاح سے بھری کے ساتھ دور در کر یا کریم یا کریم یا کریم

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَإِلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

اپنی رحمت کے ساتھ اے تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے اور صلہ رحمت ہو تو میں تیرے ہی خاندان کے اہل بیت پر